

بچوں کے لئے بائبل
تحائف

ڈیگجل انسان،

لاچار (غریب)

انسان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Maillot; Sarah S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



یسوع اوس واریہن مذہبی پیشواہن زانان یم خدایہ
سُند لول تہاونہ کھوتہ پونسن لول بران اسی۔ تھی وون
ز دؤن شخصن کیا سپد تہ خدایہ سند لولہ ورآے
کتہ پاٹھی چھ پونسہ فضول۔ پونسہ ہیکنہ آسمانس
پیٹھ روزن وائس خدایس نش زندگی حاصل کرتہ۔




اُكس جايه اوس اكه
ڊيڪهجل شخصاه يمِس
بڊِ قِمْتِي تِه مَاري مندي
پلو اُسي - سُه اوس اُكس
راز سندي پاڻهي پلو
پوشاك لاگان -



یہ امیر شخص اوس کھیوان چیوان تہ رُت۔ اُمسُند پڑتہ کائہہ کھین اوس سال ہیو۔
اُمس اُس تیڑاہ دولتہ زِ یہ اوس ہیکان پنہ ناشتہ، کاجہ تہ کالہ باپتہ پنہ پسندک
کھین ملى ہیتہ۔



أمس امیر سندس دروازس پیٹھ اوس آسان اکھ نادار، بیمار تہ بوچھ ہوت
بیچھون۔ یمسند ناو لعزر اوس۔



اُمسِ غَرِيبٍ لِعِزْرَتِّ اُسِي جِسْمَسِ پَهِيپَهَرِ - اُمسِ
اَسِي هِي كَانِه دود تِه - اُمسِ اَسِي هِن لُكُو هِنْدِيو
دَكُو دَرُسيو سِي تِي جِسْمَسِ چِهوكِن تِه زِلِنِ هِنْدِي
نِشَانِه تِه - مَمَكِنِ چُه بَدِنِكِي يَمِ پَهِيپَهَرِ مَ اَسِنَسِ
اَمِه كِنِي تِه زِتَسِ اَسِي هِي نِه رُتِ غِذَا دودِ،
سَبِزِي يَا مَازِ بِيْتَرِ مِيْلَانِ -



لعزّٰر اوس بوچھ
بوچھ، کران آسان۔
سُ گڑھ ہے اُمس امیر
شخصہ سنزِ ژھیچہ
ژوچہ کھنجہ ستی
خوش۔



آوارِ ہونی اسی بعضے
اُمس برے سہارِ بیچہ
ونس لتہ مونجہ کران۔
تم اُسس اندی پکی
مُشک ہیوان تہ چھوکن
لیوان۔ باسان اوس زنتہ
کائسہ فکر چھنہ اُمس
بوچہ بوچہ کرونس
لعزر سنز۔



اکہ دوہہ صبحاً مے
ووتھے نہ لعزر نندر۔
یہ غریب بوچھ ہوت
بے یار بیچھ وُن اوس
یہ زندگی تراوتھ
گوٹ۔ لعزر اوس
موٹ۔



یتھے لعزر مود تھے گئیہ تسنر خوشی شروع۔
یسوع ہن وون فرشتو تُل سہ ابراہمس نیش واتناونہ
باپتہ۔ لعزرس دیوت خداین تسلی۔



أمیر شخص تہ مود۔ تسنڑ سارے دولت تہ ہیچنہ تس بچاوتہ۔ ییلہ موت ووٹس
کانہہ تہ ہیوکس نہ بتہ روزتہ۔



امیر شخص آو دفناونہ شاید آسہ ہرے یہ بوڈ جنازہ۔ شاید آسن لکو امیرس یہ وُنتھ
تأریف گری مٹی ز سہ اوس چالاک تہ کامیاب شخص۔ مگر یہندی تأریف لگی
نہ تس گنی۔ امیر شخص اوس جہنمس منز۔



جہنمَس منڑ ژھچہ امیر شخصن وَدن باکہ - "ہے ابراہم سانہ بزرگہ لعزّ سوزتن یور
تاکہ سہ بوڈناو پنی اونگج آبس منڑ تہ میانہ زیو شہلاو۔ بہ چُہس یتہ وُوبہ وُنس
نارس منڑ انتہایی عذابس۔"



"پننِس زُون کالس منز اوسے ژئے سورے
تہ یہ لعزر اوس بلکل ژھورے تہ چھونے۔"
ابراہامن پوو امیرس ژبتس۔ وونی چھ لعزر
آرامس تہ ژ عذابس منز۔ کانہہ تہ ہیکہ نہ
ژئے تہ اسہ درمیان یہ کھے پآزتہ۔



لعزّ سوزی تون میانین پائژن باین خبردار کرنه-
امیر شخصن کورس زارِ پارِ- به چُھس نہ یژھان
زِ تم تہ گژھن یتھ عذابس منز ہینہ ینی-



"چانين باين باپتھ چھ خدا سُنڊ ڪلام۔" ابراهيمَنَ

ووننڪھ۔ يودوے تيم بائبل زيرِ نظر تهاون نہ۔ تم

بوزن نہ مُرتھ زندِ گژھن وائس لعزر سُنڊ تہ۔



بيٺه يسوع بن امير شخص ته لعزر ستر دليل
موڪلاؤ۔ شايد پروڙه ڀمو مذهبي پيشوا هو پانس۔
به ما چھس خدا سندن ڪهوتہ مالہ دولتس
محبت ڪران۔ ووني اس تمن خبر ز خدا سندن
قول نه بوزن والين ستر ڪياھ بهيڪہ بنتھ۔



ڈیگجل انسان، لاچار (غریب) انسان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

لیوک 16

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

